

12 اکتوبر 2018

برامپٹن نے اپنی ٹریڈ 'اے' کریڈٹ ریٹنگ اور 'مستحکم' حالت برقرار رکھی ہوئی ہے

برامپٹن، آن – سٹیٹنڈرڈ اینڈ پورز (S&P) نے آج سٹی آف برامپٹن کی ٹریڈ 'اے' ریٹنگ کی توثیق کی ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ S&P نے سٹی آف برامپٹن کے لیے ایک 'مستحکم' ظاہری حالت بھی جاری کی ہے۔ ٹریڈ 'اے' وہ زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ریٹنگ ہے جو کسی بھی بلدیہ کو موصول ہو سکتی ہے اور سٹیٹنڈرڈ اینڈ پورز (S&P) کے مطابق یہ ریٹنگ شہر کی جانب سے کیے جانے والے ٹھوس اقتصادی انتظامات کی عکاسی کرتی ہے۔

سرخیاں

- S&P کے مطابق یہ ریٹنگ کئی عناصر کی وجہ سے عطا کی جاتی ہے، بشمول:
 - اقتصادی نظم و ضبط کا مضبوط طرز عمل: کنٹرول سسٹمز کو بہتر بنانے اور شفاف اور آسانی سے قابل رسائی معلومات پر توجہ برقرار رکھنا۔
 - غیر معمولی سیالیت: برامپٹن کا مضبوط طریقہ کار نقدی کے بہاؤ کی زبردست گنجائش پر مرکزی نقطے کو متوازن کرتا ہے، جو قرض کی سروس کے تقاضوں سے بہت زیادہ اور دیگر شہروں سے بہت طاقتور ہے۔
 - مضبوط معیشت: برامپٹن کو ایک بہت مضبوط اور اچھے تنوع کی حامل معیشت اور اچھی سماجی و اقتصادی اور شماریاتی خصوصیات کا فائدہ حاصل ہے۔

اقتباس

"یہ مضبوط ریٹنگ شہریوں کے لیے اچھی بلدیاتی حکومت اور احتساب پر مبنی شہر کی مسلسل توجہ کی عکاسی کرتی ہے۔ برامپٹن اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو تبدیل کرنے اور اس سے آگے، 2040 ویژن میں بیان کیے گئے مربوط شدہ، مشمول، جدت پسند اور نڈر برامپٹن کو تعمیر کرنے کے لیے ضروری سرمایہ کاری کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اچھے مقام پر موجود ہے۔"

- برامپٹن میئر لنڈا جیفری

30--

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654